

Urdu Writing Examples

| Level | Description of Level | Example |
|-----------------------------|---|---|
| Level 1 Novice-Low | At this level, I am able to create individual words that have no extended meaning. I can share some simple vocabulary, which deals with the prompt/task/situation, but I tend to struggle to connect those words to create meaning | نوجوانوں جب دوستوں کے تلاش کرتے |
| Level 2 Novice-Mid | At this level, I am beginning to develop the ability to create meaning by grammatically connecting words. Specifically, I can connect some basic subjects and verbs or verbs and objects, but I may be inconsistent at doing this. I am often limited in my vocabulary to Novice level topics that I experience in my every-day life or that I have recently learned. | ٹی وی سے بچوں پر اشر پر تا ہے۔ وقت ٹی وی پ رہتے ہیں |
| Level 3 Novice-High | At this level, I can create simple sentences with very basic grammatical control and accuracy. There are often errors in my responses, while at the same time I might have good control with some very simple structures and functions of the language that I have just learned or studied. At the Novice levels, errors are expected as I try to create simple sentences. Generally, the sentences that I am able to create are very basic and simple with few, if any, added details. | ٹی وی دیکھنا اور ویڈیو گیم کھیلنا کوی بری بات نہیں۔ آج کل کا زمانہ نیا زمانہ ہے۔ |
| Level 4 Intermediate-Low | At this level, I can create simple sentences with some added detail; such sentences help create VARIETY. At the Intermediate Low level, simple sentences are enhanced by use of prepositional phrases, helping verb usage, as well as some adverbs and a variety of adjectives. I generally create independent sentences (ideas) that can be moved around without affecting the overall meaning of the response. There are still a number of errors in my response, but I have fairly good control of more basic sentences. I am feeling more confident in using different structures and expanding vocabulary and taking more risks with my responses. | ٹی وی بچوں پر اچھے اور برے اثرات ڈالتا ہے۔ ٹی وی دیکھنا وقت ضیا بع کرتا ہے۔ بچے وقت پر کام نہیں کر پاتے۔ وہ وقت پر کھا نا نہیں کھا پاتے۔ امی اور ابو پریشان ہوتے ہیں۔ ٹی وی سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ توی دیکھنا اچھی عادت نہیں ہے |
| Level 5 Intermediate-Mid | At this level, I can now create enough language to show groupings of ideas. My thoughts are loosely connected and cannot be moved around without affecting meaning. I can also create a few sentences with complexity and am able to use some transition words. I am also able to use more than just simple present tense, but often make mistakes when I try to use other tenses. My vocabulary use is expanding and I am able to use more than the usual, high frequency or most common vocabulary. I feel that I am able to create new language on my own and communicate my everyday needs without too much difficulty. | ٹی وی دیکھنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ بچوں کی بینائی کو کمزور کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی بچوں کے لیے ٹی وی دیکھنا اور ویڈیو گیمز کھیلنا بھی آرام دہ ہے اور بچوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ویڈیو گیمز نہ کھیلیں۔ بہت زیادہ ویڈیو گیمز بچوں کے جسم میں بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ زیادہ حرکت نہیں کرتے اور ویڈیو گیمز اسکول اور گھر میں اپنی توجہ ضائع کرتے ہیں۔ |

| Level | Description of Level | Example |
|------------------------------|---|--|
| Level 6 Intermediate-High | At this level, I have good control of the language and feel quite confident about an increasing range of topics. There are still some occasional errors in my language production, but that does not hinder my ability to communicate what I need to share. I can use circumlocution to explain or describe things for which I do not know specific vocabulary or structures. I can understand and use different time frames and am just beginning to develop the ability to switch most time frames with accuracy. I can use transition words and concepts with some ease. My language has a more natural flow, but I still may have some unnatural pauses or hesitations. | <p>ٹی وی دیکھنے اور ویڈیو گیم کھیلنے کے بہت سے فائدے اور نقصانات ہیں۔ ٹی وی دیکھنے اور ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے بہت سی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ان کو بہت سی نئی معلومات ملتی ہیں اور یہ بچوں کی پسندیدہ تفریح ہے مگر اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ بچے سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور پڑھائی کو وقت نہیں دیتے، رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ کلاس میں بھی دیہان نہیں دیتے جسکی وجہ سے وہ امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سارا سارا دن ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے باہر جا کر نہیں کھیلتے جسکی وجہ سے انکی جسمانی ورزش نہیں ہوتی اور بچے بیمار رہتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسمانی ورزش کی اشد ضرورت ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھیں اور ویڈیو گیم کھیلیں، پڑھائی پر توجہ دیں، رات کو وقت پر سوئیں، صبح وقت پر اٹھیں، صبح کی سیر کو جائیں، کلاس میں پوری توجہ دیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں</p> |
| Level 7 Advanced-Low | At this level my response contains a number of complexities with higher degree of accuracy. Such language allows me to address each aspect of the prompt more completely and with more depth of meaning. I am able to use Advanced vocabulary or Advanced terms, conjugations etc. with confidence. I feel that I can create natural flow using as much detail and descriptive language as possible to create a clear picture. Errors with more complex structures may still occur. My ability to switch time frames begins to increase in accuracy. | <p>آج کل ، بچے ٹی وی اور ویڈیو گیمز جیسی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرح سے جو ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ ٹی وی پر بچے کپاس اور دیگر چیزوں کے ذریعے ادب اور نئی چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ لیکن ٹی وی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو جلد معلوم ہوتی ہیں۔ چونکہ کچھ وقفے ہیں ، والدین کو نگرانی کرنی چاہیے کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب ویڈیو گیمز کی بات آتی ہے تو اس کے کچھ فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ ویڈیو گیمز بچوں کے دماغ اور ذہانت کو تیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پیغام کے مطابق وہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ انہیں ویڈیو گیمز کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ویڈیو گیمز سے بچے مشکلات کا حل نکانے اور ہاتھ اور ان کو ساتھ ساتھ ہلانے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ خراب نظر، بری صہب اور دوسروں سے کم سے کم بات کرنا ان منفی اثرات میں شامل ہے۔ ، کچھ والدین مذاق میں اس سے گریز کرتے ہیں ، جو کہ ایسا نہیں ہے جو کیا جانا چاہیے ، کیونکہ وقت بدلتا ہے اور لوگ تازہ ترین دراڑوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچوں کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے۔ پھر کچھ پابندیوں کے ساتھ تاکہ بچے سیکھ سکیں اور کھیل سکیں۔ پچھلی وجوہات کی بنا پر ، باپ اور ماؤں کو اس معاملے کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اخلاقیات اور منفیات کی نشاندہی کرنی چاہیے ، اس لیے بچوں کو موقع دینے کے لیے آخری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ، وقت کے ساتھ رفتار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی اور ذہنی کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ صحت . صحت نفسیاتی</p> |

| Level | Description of Level | Example |
|-------------------------|--|--|
| Level 8 Advanced-Mid | <p>At this level my response demonstrates my ease with the language. I am able to create a response which not only addresses each aspect of the prompt, but delves into each point with clarity and concise language. I am able to incorporate a number of more complex structures as well as Advanced vocabulary and Advanced phrases with a higher degree of accuracy throughout the majority of the response. The language I create has a natural flow due to the way I incorporate a variety of patterns and complexities into my response. My response shows my ability to create language that has sophistication of language skills and syntactical density. My ability to switch time frames accurately is evident, if called for in the prompt.</p> | <p>دوست احباب خدا کی بہت بری نعمت ہیں، کہا جاتا ہے کہ انساں کی پہچان اسکے دوست اور اسکی محفل سے پتہ لگتی ہے۔ ایک بری شکصیت نے فرمایا ہے کہ بھابی اور اچھے دوست میں بس اتنا فرق ہے جتنا کہ سونے اور چاندی میں ہے، یعنی دونو نیاب اور جسے ملے وہ خوش نصیب۔ آج کے اس دور میں اک اچھا اور خالص دوست ملنا غنیمت کے مطراف ہے۔ دوست پنی وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہر خوش و غم میں آپ کے ساتھ کھرا رہے اور اب کی حوصلہ افزا کرتا رہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آہیں گے جب آپ کو اک دوست کی ضرورت پڑے جو آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھرا رہے۔ کوئی ایسا جو آپ کی حمت ہو۔ آپ اس کے بھروسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتے ہو۔ ایک اچھے دوست کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے اور آپ کو سیدھے راہ پر لائے۔ دوست بنائے نہیں جاتے وہ آپکی زندگی میں خود آتے ہیں۔ مگر آن حاصل کردہ دوستوں کو سمیہال کر رکھنا آپ کی ذماداری ہے، اور کسی بھی غلط فہمی کے بایس انہیں آہ نا کریں۔ دوستی ایک پاک رشتا ہے اسے نبھانا چاہئے۔ اچھی دوستی کی کچھ نشانیاں ہیں کہ: اناء کا بیج نا بویا جائے۔ دل میں کینہ و حصد نہ ہو۔ دل کے راستے ہموار ہوں۔ دوست کی مصیبت کو اپنی سمجھا جائے۔ فلاح و بہبود پر زور دیا جائے۔ رب کی راہ میں لایا جائے۔ ایسی شخصیات سے بچنا چاہیے جو آپ کی بے وجہ تعریف کرے۔ جھوٹے دلا سے دے۔ * وقت کا پابند نا ہو۔ اخلاقیات کا پاس نا رکھے۔ * صرف کام کے وقت ہی یاد کرے۔ اچھی دوستی نبھانی جاتی ہے اور اسکے بھی تریقے ہوتے ہیں مڑلا * انکی محبت کا پاس رکھا جائے۔ انہیں ادھورا نا چھوریں۔ مصیبت کے وقت اپنا پلو چھرا کر نا بھاگیں۔ ہم ایک سال میں کئی دوست بنا سکتے ہیں پر کئی سالوں تک اک ہی دوست سے دوستی نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسی دوست کے ہمراہ ساری زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہے، اور ایسے دوست قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ آج کل دوستی کو برکراں رکنا بہت ہم ہے</p> |

Updated April 2022

Copyright © 2022 Avant Assessment, LLC. All rights reserved.